

SALTOC Project

Title: Islām aur 'aṣr-i-jadīd

Imprint: Na'ī Dillī: Muḥammad Hafīzuddīn

New Delhi: Zakir Husain Institute of Islamic Studies,  
Jamia Millia Islamia University

OCLC: 6727848

Volume 13, no. 4, October 1981

TOC Supplied By: Center for Research Libraries

# ISLAM AUR ASR-I-JADEED

Vol. XIII No. 4

October 1981

ZAKIR HUSAIN INSTITUTE OF ISLAMIC STUDIES

Jamia Millia Islamia, Jamia Nagar, New Delhi-110025.

## Islam aur 'ASR-i-Jadid

کیا  
آپ کی روزانہ کی خوراک سے  
آپ کے بدن کو پوری قوت اور  
پورا فائدہ ملتا ہے؟

LIBRARY FOR RESEARCH



آپنی روزمرہ خوراک سے صحیح تغذیہ حاصل کرنا  
جس بات پر منحصر ہے کہ آپ کا نظام ہضم کتنا  
شعیب اور طاقتور ہے۔

سنکارا ہی ایک ایسا ٹانگ ہے جس میں  
طاقت دینے والے ضروری دوائیوں اور معدنی  
اجزاء کے ساتھ چھوٹی الائچی، لونگ، دھنیا،  
دارچینی، تیز پات، تلسی وغیرہ جیسی چودہ جڑی  
بوٹیاں شامل ہیں۔ اس مرکب سے آپ کے  
نظام ہضم کو طاقت ملتی ہے اور آپ کا بدن  
اس کی مدد سے آپ کی روزمرہ خوراک سے  
صحیح تغذیہ اور بھرپور قوت حاصل کرتا ہے۔

## سنکارا

ہر موسم اور ہر عمر میں  
سب کے لیے بے مشابہ ٹانگ

MD-6949 AU

ہمدرد

## فہرست مضامین

- |    |                        |  |
|----|------------------------|--|
|    |                        | ۱۔ اصلاح و تہجد کے حافی<br>اور ان کی انجمنیں (اداریہ)  |
| ۵  | ضیاء الحسن فاروقی      |  |
| ۱۳ | ڈاکٹر محمد راشد ندوی   | ۲۔ ڈاکٹر محمد حسین بیگلی (۱۹۵۶-۱۸۸۸)                   |
| ۴۳ | مولانا حافظ بدر الدین  | ۳۔ خلیجی ریاستوں میں ادبی سرگرمیاں                     |
| ۵۲ | ڈاکٹر محمد سالم قدوائی | ۴۔ قرآن کے اردو تراجم و تفاسیر                         |
|    |                        | ۵۔ مولانا ابوالکلام کے حواشی<br>(زیر مطالعہ کتابوں پر) |
| ۶۴ | جناب سید مسیح الحسن    |  |